

درس ۱

عنوان: احکام کی اہمیت اور تعریف

اسلامی تعلیمات کے تین حصے ہیں:

(۱) عقائد: وہ باتیں جن کو ماننا ہے اور یقین رکھنا ہے۔ کسی بھی دین کی بنیاد اور اساس جس پے دین استوار ہے۔

(۲) احکام: وہ باتیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے، یعنی جو انسان کے فرائض کا تعین کرتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے یا کن سے بچنا چاہیے، انہیں احکام کہتے ہیں۔

(۳) اخلاق: عقیدہ کے ساتھ عمل کر کے اعمال کو خوبصورت بنانا۔

اصول دین یا اصول اعتقادات پانچ ہیں:

(۱) توحید

(۲) عدل

(۳) نبوت

(۴) امامت

(۵) قیامت

ہر مسلمان کے لئے اصول دین کو دلیل سے جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اصول دین میں کسی طرح بھی تقلید نہیں کی جاسکتی۔ لیکن فروع دین میں تقلید کرنا ہوگی یعنی احکامات میں ضروری ہے کہ انسان یا تو خود مجتہد ہو یعنی احکام کو دلیل کے ذریعے حاصل کرے یا کسی مجتہد کی تقلید کرے۔

احکام کی پانچ قسمیں ہیں: واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح۔

(۱) واجب: وہ کام جس کو کرنا لازم ہے اور انجام نہ دینے پر عذاب ہوگا، جیسے نماز، روزہ وغیرہ۔

(۲) حرام: وہ کام جس کو اللہ تعالیٰ نے انجام دینے سے منع کیا ہے اور انجام دینے پر عذاب ہوگا، جیسے جھوٹ، ظلم

وغیرہ۔

(۳) مستحب: وہ کام جس کو انجام دینا بہتر ہے لیکن ترک کرنے پر عذاب نہیں ملے گا، جیسے سلام کرنا یا صدقہ دینا۔

(۴) مکروہ: وہ کام جس کو ترک کرنا بہتر ہے لیکن انجام دینے پر عذاب نہیں ہوگا، جیسے کھانے پر پھونک مارنا اور

گرم کھانا کھانا۔

(۵) مباح: وہ کام جس کو انجام دینا اور انجام نہ دینا برابر ہے، جیسے راستہ چلنا اور بیٹھنا۔

احکام خداوندی کہاں سے حاصل کریں؟

(یعنی کہاں سے جانیں کہ اللہ ہم سے کیا طلب کرتا ہے اور کن باتوں سے دور رکھنا چاہتا ہے)

(۱) قرآن مجید

(۲) پیغمبر اکرم ﷺ اور آئمہ اطہار (علیہم السلام) کی روایات

(۳) مجتہد کی تقلید